

Scan me



تحميل البرنامج

Lataa Kriisipuhelin



Kriisipuhelin
010 195 202

خط مساعدة الأزمات
040 195 8202

mieli

mielenterveysseura.fi/tukea-ja-apua
mielenterveysseura.fi/azma




Scan me



تحميل البرنامج

Lataa Kriisipuhelin



Kriisipuhelin
010 195 202

خط مساعدة الأزمات
040 195 8202

mieli

mielenterveysseura.fi/tukea-ja-apua
mielenterveysseura.fi/azma



Scan me



تحميل البرنامج

Lataa Kriisipuhelin



Kriisipuhelin
010 195 202

خط مساعدة الأزمات
040 195 8202

mieli

mielenterveysseura.fi/tukea-ja-apua
mielenterveysseura.fi/azma



Scan me



تحميل البرنامج

Lataa Kriisipuhelin



Kriisipuhelin
010 195 202

خط مساعدة الأزمات
040 195 8202

mieli

mielenterveysseura.fi/tukea-ja-apua
mielenterveysseura.fi/azma





Kriisipuhelin

Kriisipuhelin päivystää arkisin klo 9.00–07.00
viikonloppuisin ja juhlapyhinä klo 15.00–07.00

أوقات تلقي الاتصالات:

يوم الاثنين، الثلاثاء، الخميس والجمعة

من 11.00 صباحًا إلى 15.00 مساءً

يوم الأربعاء من 17.00 مساءً إلى 21.00 ليلاً

You can call us also in English



Kriisipuhelin

Kriisipuhelin päivystää arkisin klo 9.00–07.00
viikonloppuisin ja juhlapyhinä klo 15.00–07.00

أوقات تلقي الاتصالات:

يوم الاثنين، الثلاثاء، الخميس والجمعة

من 11.00 صباحًا إلى 15.00 مساءً

يوم الأربعاء من 17.00 مساءً إلى 21.00 ليلاً

You can call us also in English



Kriisipuhelin

Kriisipuhelin päivystää arkisin klo 9.00–07.00
viikonloppuisin ja juhlapyhinä klo 15.00–07.00

أوقات تلقي الاتصالات:

يوم الاثنين، الثلاثاء، الخميس والجمعة

من 11.00 صباحًا إلى 15.00 مساءً

يوم الأربعاء من 17.00 مساءً إلى 21.00 ليلاً

You can call us also in English



Kriisipuhelin

Kriisipuhelin päivystää arkisin klo 9.00–07.00
viikonloppuisin ja juhlapyhinä klo 15.00–07.00

أوقات تلقي الاتصالات:

يوم الاثنين، الثلاثاء، الخميس والجمعة

من 11.00 صباحًا إلى 15.00 مساءً

يوم الأربعاء من 17.00 مساءً إلى 21.00 ليلاً

You can call us also in English